



AlMursalat

المرسلات

الْمُرْسَلَات

In the name of Allah,
Most Gracious, Most
Merciful.

اللہ کے نام سے جو بہت مہربان
نہایت رحم والا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

1. By those (winds)
which are sent forth in
succession.

قسم ہے ان (ہواؤں) کی جو چلائی جاتی
میں سچ سچ۔

وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ۝۱

2. Which then blow
violently.

پھر چلتی ہیں زور پکڑ کر۔

فَالْعَصْفَاتِ ۝۲

3. And scatter (the
clouds) by lifting them.

اور پھیلاتی ہیں (بادلوں کو) ابھار کر۔

وَالنَّشْرَاتِ نَشْرًا ۝۳

4. Then split (them)
asunder.

پھر جدا کر دیتی ہیں (انکو) پھاڑ کر۔

فَالْفُرْقَاتِ ۝۴

5. Then infuse (hearts
with) the remembrance
(of Allah).

پھر ڈالتی ہیں (دلوں میں) یاد (اللہ
کی)۔

فَالْمُلْقَاتِ ۝۵

6. As an excuse or
as a warning.

عذر دور کرنے یا ڈرانے کو۔

عَذْرًا اَوْ نَذْرًا ۝۶

7. Indeed, that you
are being promised,
must come to pass.

بیشک جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا
ہے وہ ضرور ہو کر رہے گا۔

اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَوْ وُعِدَ ۝۷

8. Then, when the
stars lose their lights.

پس جب تارے ماند پڑ جائیں۔

فَاِذَا النُّجُوْمُ طُمِسَتْ ۝۸

9. And when the heaven
is cleft asunder.

اور جب آسمان پھاڑ دیا جائے۔

وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ ۝۹

10. And when the
mountains are blown

اور جب پہاڑ ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیے

وَإِذَا الْجِبَالُ سُفِفَتْ ۝۱۰

away as dust.	جائیں۔	
11. And when the messengers' time of appointment has come.	اور جب رسولوں کی حاضری کا وقت آجائے۔	وَإِذَا الرُّسُلُ أُقْبِتَتْ ^ط
12. For what day was it postponed.	کس دن کے لئے تاخیر کی گئی ہے۔	لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ ^ط
13. For the Day of Decision.	اس دن کے لئے جو فیصلے کا ہے۔	لِيَوْمِ الْفَصْلِ ^ط
14. And what do you know what the Day of Decision is.	اور کیا تمہیں خبر کہ کیا ہے دن فیصلے کا۔	وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمِ الْفَصْلِ ^ط
15. Woe that Day to the deniers.	خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کیلئے۔	وَيْلٌ لِّیَوْمِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ^ط
16. Did We not destroy the former people.	کیا ہمیں ہلاک کر دیا ہم نے پہلے لوگوں کو۔	أَلَمْ هُمُكِ الْأَوَّلِينَ ^ط
17. Then We follow them up with those of latter.	پھر ہم بھیج دیتے ہیں انکے پیچھے بعد والوں کو۔	ثُمَّ نَتَّبِعُهُمُ الْآخِرِينَ ^ط
18. Thus do We deal with the criminals.	ایسا ہی کیا کرتے ہیں ہم مجرموں کے ساتھ۔	كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ^ط
19. Woe that Day to the deniers.	خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کیلئے۔	وَيْلٌ لِّیَوْمِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ^ط
20. Did We not create you from a fluid which is worthless.	کیا ہمیں پیدا کیا ہم نے تھکو پانی سے جو حقیر ہے۔	أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ^ط
21. Then We kept it in a secure place.	پھر رکھ دیا اس کو ایک محفوظ جگہ میں۔	فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ^ط
22. For an appointed term.	ایک وقت معین تک۔	إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ ^ط

23. Then We did measure, so excellent (are We) to measure.

پھر ہم نے اندازہ مقرر کیا سو خوب (ہم میں) اندازہ مقرر کرنے والے۔

فَقَدَرْنَا^ق فَبِعَمَّ الْقَدِيرُونَ ﴿٢٣﴾

24. Woe that Day to the deniers.

خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کیلئے۔

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٤﴾

25. Have We not made the earth a receptacle.

کیا نہیں بنایا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی۔

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا^ل ﴿٢٥﴾

26. For the living and the dead.

زندوں اور مردوں کو۔

أَحْيَاءَ^ل وَ أَمْوَاتًا ﴿٢٦﴾

27. And We placed in there lofty mountains and gave you to drink sweet water.

اور رکھ دیئے ہم نے اس میں اونچے اونچے پہاڑ اور پلایا تم کو میٹھا پانی۔

وَجَعَلْنَا فِيهَا رِوَادٍ شَمِخَاتٍ^ل وَ أَسْقَيْنَكُم مَّاءً فُرَاتًا^ط ﴿٢٧﴾

28. Woe that Day to the deniers.

خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کیلئے۔

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٨﴾

29. Go off to that which you used to deny.

چلو اس چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔

إِنطَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٢٩﴾

30. Go off to the shadow which has three columns.

چلو اس سایہ کی طرف جسکی ہیں تین شاخیں۔

إِنطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ^ل ﴿٣٠﴾

31. Neither cool shade, nor availing against the flame.

نہ ٹھنڈی چھاؤں اور نہ بچانے والا شعلوں سے۔

لَا ظِلِّيلٍ وَلَا يَغْنِي مِنَ اللَّهَبِ^ط ﴿٣١﴾

32. Indeed, it throws off sparks (as huge) as castles.

بیشک وہ اڑاتی ہے چنگاریاں (اتنی بڑی) جیسے محل۔

إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ^ط ﴿٣٢﴾

33. As if they were camels of yellow color.

گویا وہ ہیں اونٹ زرد رنگ کے۔

كَأَنَّهُ جَمَلَاتٌ صُفْرٌ^ط ﴿٣٣﴾

34. Woe that Day to the deniers.

خرابی ہے اسدن جھٹلانے والوں کیلئے۔

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٤﴾

35. This is the Day they shall not speak.

یہ ہے وہ دن کہ نہ بول سکیں گے۔

هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ ﴿٢٥﴾

36. And it will not be permitted for them to offer any excuses.

اور نہ اجازت دی جائے گی انکو کہ عذر کر سکیں۔

وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ﴿٢٦﴾

37. Woe that Day to the deniers.

خرابی ہے اسدن جھٹلانے والوں کیلئے۔

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٧﴾

38. This is the Day of Decision. We have gathered you and the former people.

یہی ہے دن فیصلے کا۔ جمع کیا ہے ہم نے تمکو اور پہلے لوگوں کو۔

هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأُولَىٰ ﴿٢٨﴾

39. So, if you have a plan, then plan against Me.

پس اگر تمہارے پاس ہے کوئی چال تو مجھ سے کر چلو۔

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُوا ﴿٢٩﴾

40. Woe that Day to the deniers.

خرابی ہے اسدن جھٹلانے والوں کیلئے۔

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٠﴾

41. Indeed, the righteous (shall be) amidst shades and springs.

بیشک پرہیزگار (ہوں گے) سایوں میں اور چشموں میں۔

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلِّ وَعُيُونٍ ﴿٣١﴾

42. And fruits from whatever they desire.

اور پھل ایسے جو انکو مرغوب ہوں۔

وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٣٢﴾

43. Eat and drink with your heart's content for what you used to do.

کھاؤ اور پیو مزے سے انکے بدلے میں جو عمل تم کرتے رہے تھے۔

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٣﴾

44. Indeed, thus We reward the doers of good.

بیشک ایسا ہی ہم بدلہ دیتے ہیں نیکیوں کو۔

إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٤﴾

45. Woe that Day to the deniers.

خرابی ہے اسدن جھٹلانے والوں کیلئے۔

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٥﴾

46. Eat and enjoy for a while, indeed, you are criminals.

کھا لو اور فائدے اٹھا لو تھوڑا
بیشک تم ہی مجرم ہو۔

كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ
جُنُودٌ ﴿٤٦﴾

47. Woe that Day to the deniers.

خرابی ہے اسدن جھٹلانے والوں کیلئے۔

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٧﴾

48. And when it is said to them, bow down (before Allah) they do not bow down.

اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ جھکو
(اللہ کے آگے) تو نہیں جھکتے۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا
يَرْكَعُونَ ﴿٤٨﴾

49. Woe that Day to the deniers.

خرابی ہے اسدن جھٹلانے والوں کیلئے۔

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٩﴾

50. Then in what statement after this will they believe.

تو اب کونسی بات پر اس کے بعد وہ
ایمان لائیں گے۔

فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٠﴾

